



Noble Quran القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

حضرت شاہ عبدالقدیر (ع) اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة الطلاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطْلَقُوهُنَّ لِعَدَّةٍ فَلَا يَحْصُو الْعِدَّةَ

اے نبی! جب تم طلاق دو عورتوں کو، تو ان کو طلاق دو انکی عدّت پر، اور گنتے رہو عدّت۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

اور ڈرواللہ سے جورب ہے تمہارا۔

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُ جَنَّإِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاجِشَةٍ مُّبِينَةٍ

مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے، اور وہ بھی نہ نکلیں، مگر جو کریں صرتھ بے حیائی۔

وَتَلْكَ حَدُودُ اللَّهِ

اور یہ حدیں باندھی اللہ کی۔

وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

اور جو کوئی بڑھے اللہ کی حدود سے تو اس نے برآ کیا اپنا۔

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحِدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أُمْرًا

اس کو خبر نہیں شاید اللہ نیا نکالے اس پیچھے کچھ کام (راستہ)۔

فَإِذَا أَبَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمِسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

پھر جب پہنچیں اپنے وعدہ کو تور کھلوان کو دستور سے یا چھوڑ دوان کو دستور سے،

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

اور گواہ کر لودو معتبر اپنے میں کے (سے) اور سید ہی کہو گواہی اللہ کے واسطے۔

ذَلِكُمْ يُوعظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

یہ بات جو ہے اس سے سمجھ جائے گا جو کوئی یقین رکھتا ہو گا اللہ پر اور پچھلے (قیامت) دن پر

وَمَنْ يَتَّقِنَ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ الْخَرْجًا

اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے، وہ کر دے اس کا گزارہ

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

اور روزی دے اس کو جہاں سے اس کو نہیاں نہ ہو۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبٌ

اور جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر، تو وہ اس کو بس (کافی) ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِالْعِلْمِ أَمْرٍ

اللہ مقرر (بلاشبہ) پورا کر لیتا ہے اپنا کام۔

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قُلْرَاءَ

اللہ نے رکھا ہے ہر چیز کا اندازہ (تقدیر)۔

.2

.3

وَاللَّٰهُي يَئِسَنَ مِنَ الْمُحِيطِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اتَّبَعْتُمْ فَعِدَّهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

اور جو عورتیں نا امید ہوئیں حیض سے تمہاری عورتوں میں، اگر تم کوشبہ رہ گیا، تو ان کی عدت ہے تین مہینے،

وَاللَّٰهُ لَمْ يَحْفَضْنَ

اور ایسے ہی جن کو حیض نہیں آیا۔

وَأُولُاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلَهُنَّ أَنْ يَصْنَعُنَ حَمْلَهُنَّ

اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے، ان کی عدت یہ کہ جن لیں پیٹ کا بچہ۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے، (اللہ) کر دے اس کو اس کے کام میں آسانی۔

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ

یہ حکم ہے اللہ کا، جو اتارا تمہاری طرف۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَظِّمُ لَهُ أَجْرًا

اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے، (اللہ) اُتارے اس سے اسکی برائیاں، اور بڑادے اسکونیگ (اجر)۔

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُو هُنَّ لِنُضِيقُوا عَلَيْهِنَّ

گھر دوان کو رہنے کو، جہاں تم آپ رہو اپنے مقدور کے موافق اور ایذا نہ چاہو ان کی، تا تنگ کپڑوں کو۔

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَصْنَعُنَ حَمْلَهُنَّ

اور اگر کھتی ہوں پیٹ میں بچہ تو ان پر خرچ کرو، جب تک جنیں پیٹ کا بچہ۔

فَإِنْ أَرَضَصُنَ لَكُمْ فَأَتُو هُنَّ أُجُورَهُنَّ

پھر اگر دودھ پلاں کیں تمہاری خاطر تو دوان کو ان کے نیگ (اجر)۔

وَأَنْتُمْ رَاوِيَنَّ كُمْ بِهِ مَعْرُوفٍ

اور سکھاؤ آپس میں نیکی۔

وَإِنْ تَعَاسِرُ ثُمَّ فَسَرْدُ ضِيقٍ لَكَ أُخْرَى

اور اگر آپس میں ضرر کرو، تو دودھ دے رہے گی اس کی خاطر اور کوئی عورت۔

صَلَّى

لِيَنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

.7

چاہیے خرچ کرے کشاش والا (خوشحال) اپنی کشاش (گناہش) سے۔

ج

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ بِرِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

اور جس کو میں (نالی، کم) ملتی ہے اس کی روزی، تو خرچ کرے جیسا دیا اس کو اللہ نے۔

ج

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

اللہ کسی پر زمہ نہیں رکھتا مگر اتنا جو اس کو دیا۔

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ غُسْرٍ يُسْرًا

اب کردے گا اللہ کچھ سختی (تنگی) کے پیچے آسانی۔

.8

وَكَانُوا مِنْ قَرِيبٍ عَتَّى عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبَنَا هَا حِسَابًا شَدِيدًا

اور کئی بستیاں اچھل چلیں (سرکشی کی) اپنے رب کے حکم سے، اور اس کے رسولوں کے،

پھر ہم نے حساب میں پکڑا ان کو سخت حساب میں،

وَعَذَّلَنَا هَا عَذَّابًا نُكَرًا

اور آفت ڈالی ان پر ان دیکھی آفت۔

.9

فَذَاقُتْ وَبَالْ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةً أَمْرِهَا حُسْرًا

پھر چکھی سزا پنے کام کی، اور آخر اس کے کام میں ٹوٹا (خسارہ) آیا۔

.10

أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

رکھی ہے اللہ نے ان کے واسطے سخت مار،

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولَئِ الْكَلَابِ الَّذِينَ آمَنُوا

سوڈرتے رہو اللہ سے، اے عقل والو! جن کو یقین ہے۔

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذُكْرًا

اللہ نے اتاری ہے تم پر سمجھوتی (صیحت)۔

.11

رَسُولًا يَتَّلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ

رسول ہے، جو پڑھتا ہے تم پاس آیتیں اللہ کی کھلی سنانے والی،

لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

کہ نکالے ان کو جو یقین لائے، اور کئے بھلے کام، اندھروں سے اجائے میں۔

وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخَلُهُ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَفْوَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر اور کرے کچھ بھلائی اس کو داخل کرے باغوں میں،

نیچے بہتی جنکے نہریں، سدارہیں ان میں ہمیشہ۔

قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ بِرْزَقًا

البتہ خوب دی اللہ نے اس کو روزی۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

اللہ وہ ہے جس نے بنائے سات آسمان اور زمینیں بھی اتنی،

يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بِيَنْهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اُرتتا ہے حکم ان کے نق، تا (ک) تم جانو کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے،

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

اور اللہ کی خبر میں سماں ہے ہر چیز کی۔

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com